

اصحابِ صفہ

مولانا مفتی محمد عاشق الہی بلند شہری

مزید کتب پڑھنے کے لیے آغا ہی دلت کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

عظیم یکدیو دیوبند

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ
وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِیْنَ یَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِیِّ
یُرِيدُونَ وَجْهَ

تذکرہ احوال حضرات اصحاب صفہ رضی اللہ عنہم

جس میں صفہ اور اصحاب صفہ کے احوال مستند کتابوں سے
اخذ کر کے لکھے گئے ہیں۔

تالیف

مولانا محمد عاشق الہی صاحب بلند شہری

ناشر

عظیم بک ڈپو دیوبند

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب	اسحاب صفہ
مصنف	مولانا محمد عاشق الہی بلند شہری
طبع اول	ستمبر ۲۰۰۱ء
کمپیوٹر کتابت	ٹکنوگراف کمپیوٹنگ سسٹمز Ph: 22031
باہتمام	عبدالرحمن عثمانی این عبدالقدراہی
صفحات	۳۸
قیمت	₹ ۳۰ روپے

ملنے کا پتہ

عظیم بک ڈیوٹی جامع مسجد دیوبند

فون 23845 (01336)

فہرست مضامین

۱	دیباچہ
۵	صفہؓ اور اصحاب صفہؓ
۸	فقہ و فائدہ کی حالت
۱۰	گزارے کی صورتیں
۱۲	حضور اقدس ﷺ کی ایک خاص شان
۱۳	حضرت ابو بکرؓ کا ایک واقعہ
۱۴	حضرت ابو ہریرہؓ کا فقر و فاقہ
۱۶	ایک عجیب واقعہ
۱۹	حضور اکرم ﷺ کا ایک خطبہ
۲۰	گزارہ کے لئے کمزیاں کاٹ کر لانا
۲۱	کپڑوں کی کمی
۲۲	صحابہ صفہؓ پر اللہ کا خاص کرم
۲۳	موت اور مال کی کمی مومن کے لئے بہتر ہے
۲۴	طرح طرح کے کھانوں کا زمانہ بہتر نہ ہوگا
۲۶	حضرات صفہؓ کا اللہ کے یہاں مرتبہ
۲۷	تکھ دستوں کو خوشخبری
۳۳	صحابہ صفہؓ کا اس لئے رونا کہ نبیؐ کی سبیل اللہ خرچ کرنے سے عاجز ہیں
۳۵	صحابہ صفہؓ کے پاس حضور اکرم ﷺ کا تشریف آ کر بیٹھنا
۳۶	حضرات اصحاب صفہؓ کے اسمائے گرامی
۳۳	فقر و اعتبار

دیباچہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ نَحْمَدُ اللّٰهَ الْعَلِیَّ الْعَظِیْمَ

وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

اما بعد در سگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے طالب علم یعنی حضرات اصحاب صفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے احوال و واقعات احقر نے اس رسالہ میں درج کئے ہیں چونکہ میرا موضوع یہ ہے کہ اصحاب صفہؓ کی زندگی یہ حیثیت اصحاب صفہؓ ہونے کے ذکر کروں اس لئے تمام اصحاب صفہؓ کی فہرست مرتب نہیں کی اور نہ ان حضرات کے پورے احوال زندگی (نسب و وطن وغیرہ) جمع کئے، مقصد صرف یہ ہے کہ در سگاہ نبوی کے طالب علموں کے احوال معلوم کر کے آج کے مسلمان بھی ان کی اقتدا کریں اور دین اور علم دین کو ہر حال میں مقصد زندگی بنائیں۔ حضرات اصحاب صفہؓ کی بھوک و پیاس، فقر و فاقہ اور ان سب کے باوجود محبت الہی میں سرشار رہنے اور آخرت کے لئے دنیاوی لذتوں کو قربان کر دینے کے حالات معلوم کر کے اس دور کے مسلمان بھی ان کے قدم بہ قدم چلنے پر آمادہ ہو جائیں اور آخرت کو اپنا مقصد زندگی بنالیں، اس مقصد کے پیش نظر چند اوراق جمع کر دئے ہیں، ناظرین سے درخواست ہے کہ اس کتاب کو خود پڑھیں، دوسروں کو سنائیں اور مطالعہ کرنے کے لئے دیں، اور احقر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔

محمد عاشق الہی بلند شہری عفا اللہ عنہ

محرم الحرام ۱۳۷۲ھ دہلی

سیدنا جبریل

صفہ اور اصحاب صفہ

صفہ عربی زبان میں چبوترہ کو کہتے ہیں، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل مسجد سے باہر ایک سایہ دار چبوترہ بنا دیا گیا تھا اس پر وہ مہاجرین حضرات جو نہ کاروبار کرتے تھے نہ ان کے پاس گھر بار تھا نہ اہل و عیال مکہ و مکرمہ اور دیگر علاقوں سے دین متین کے سیکھنے کے لئے بھوک و پیاس کو اپنی غذا بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ پڑے تھے، ان حضرات کی تعداد گھنٹی بڑھتی رہتی تھی، کیوں کہ وہ مسافر حضرات بھی باہر سے آ کر اسی چبوترہ پر ٹھہر جایا کرتے تھے جن کا مدینہ منورہ کے کسی باشندہ سے تعارف اور تعلق نہ ہوتا تھا مسافر مہمان آجاتے تو اصحاب صفہ کی تعداد بڑھ جاتی تھی اور مسافر چلے جاتے تو تعداد کم ہو جاتی تھی، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں:

واصحاب الصفۃ ذہاد من	اصحاب صفہ وہ پردیسی اور بے
الصحابۃ رضی اللہ تعالیٰ	سرو سامان صحابہ تھے جو دنیا سے بے
عنہم و هم الفقراء الغریبا۔	رغبت تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ
الذہین کانوا یأویون الی	وسلم کی مسجد کو قیام گاہ بنائے ہوئے
مسجد النبی صلی اللہ	تھے، مسجد کے آخر میں ان کے (قیام
علیہ وسلم و کانت لہم	کے) لئے ایک چبوترہ تھا جو مسجد
فی اخرہ صفۃ و ہى مکان	سے علیحدہ تھا اور اس پر سایہ کے لئے
منقطع من المسجد	کچھ بڑا ہوا تھا اس پر رات گزارتے
مظلل بینون علیہ و یأویون	تھے، ابراہیم حربی اور قاضی عیاض
علیہ قالہ ابراہیم الحرہی	نے ایسا ہی فرمایا ہے، اصحاب صفہ

والفناضی عباض وکانوا
 بقلون ویکترون ففی
 وقت کانوا سبعین وفی
 وقت غیر ذلک وقد بلغوا
 اربعمأة کما ذکره
 الفرطبی فی تفسیر سورة
 النور ومثله فی الکشاف
 عند قوله تعالیٰ للفقراء
 الذین احصرو فی سبیل
 اللہ فیزیدون بمن یقدم
 علیهم ویفقدون بمن
 یموت او یسافر او یتزوج

جب باہر سے لوگ ان میں آکر شامل ہو جاتے تھے تو ان کی تعداد بڑھ جاتی تھی اور جب ان میں سے کوئی وفات پا جاتا یا مدینہ منورہ سے چلا جاتا یا نکاح کر کے (گھر بار والا ہو جاتا) تو ان کی تعداد گھٹ جاتی تھی۔

علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اصحاب صفہ کے ایک سو ایک نام گنائے ہیں (جو ان کو معلوم ہو سکے) اور ایک مستقل رسالہ میں ان حضرات کے اسماء گرامی تحریر فرمائے ہیں، محدث حاکم نے اپنی مشہور کتاب مستدرک میں چونتیس نام تحریر فرمائے ہیں، حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے حلیۃ الاولیاء میں ۳۳ نام لکھے ہیں، حافظ ابن حجر تعالیٰ کی تحریر کے موافق ابن الاعرابی اور سلمی نے بھی ان حضرات کے اسماء گرامی جمع کئے ہیں، (ذکرہ فی فتح الباری باب نوم الرجال فی

سجد) اس کتاب کے آخر میں انشاء اللہ تعالیٰ اصحاب صفہ کے اسمائے گرامی
 حج کرونگا جو حاکم نے مستدرک میں اور ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں لکھے ہیں
 حاکم مستدرک میں لکھتے ہیں:

وہ روایات جو اصحاب صفہ کے
 بارے میں وارد ہوئی ہیں، میں نے
 ان میں غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ
 یہ پرہیزگاری اور اللہ تعالیٰ پر توکل
 رکھنے کے بارے میں (اور اللہ کے
 دین) اور اس کے رسول صلی اللہ
 علیہ وسلم کی خدمت کیلئے پڑ جانے کی
 صفت میں بڑے درجے کے صحابہ
 میں سے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے
 لئے وہی پسند فرمایا جو اپنے نبی پاک
 صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پسند فرمایا
 تھا یعنی فقر و فاقہ اور مسکینی اور اللہ
 کے سامنے رو دھو کر عبادت کرنے
 اور دنیا کو دنیا والوں کے حوالے
 کرنے کی صفت سے ان کو نوازا دیا،
 جیسا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ
 وسلم کو ان خوبیوں سے نوازا تھا۔

تاملت هذه الاخبار الواردة
 في اصل الصفة فوجدتهم
 من اكابر الصحابة رضی
 الله تعالى عنهم ودرعا
 ونوكلا على الله
 عز وجل وملازمة لخدمة
 الله ورسوله صلى الله
 تعالى عليه وسلم اختار
 الله تعالى لهم ما اختاره
 نبيه صلى الله تعالى عليه
 وآله وسلم من المسكنة
 والفقر والنضج لعبادة
 الله عز وجل وترك الدنيا
 لاهلها۔

فقر و فاقہ کی حالت

حضرات اصحاب صفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے فقر و فاقہ کا یہ عالم تھا کہ (بعض مرتبہ) حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز میں کھڑے ہوئے بھوک کی وجہ سے گر پڑتے تھے، اور دیہات سے آنے والے ان کو دیکھ کر کہتے تھے ہٰذِلَآءِ مَجَانِیْنِ (یہ دیوانے ہیں جو نماز پڑھتے پڑھتے گر پڑے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو جاتے تو ان سے فرماتے تھے کہ اگر تم کو معلوم ہو جائے کہ اس فاقہ اور بھوک کی وجہ سے تم کو کیا ملنے والا ہے تو تم اس سے بھی زیادہ فاقہ اور محتاجی کی تمنا کرو۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم سات آدمی تھے اور سب بھوکے تھے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے (آپس میں تقسیم کرنے کے لیے) سات کھجوریں عنایت فرمائیں اور فی کس ایک ایک کھجور حصہ میں آئی۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ ایک روز میں صفہ میں موجود تھا (اور میرے شریک حال دیگر اصحاب صفہ بھی تھے) ہمارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں بھجوائیں، اس وقت ہماری بھوک کا یہ عالم تھا کہ ایک ایک کھجور کھانے کو نفیس نے گوارا نہ کیا بلکہ ہر لقمہ میں جلدی جلدی دو دو کھجوریں کھانے لگے اور آپس میں سب نے کہہ دیا کہ ہر شخص دو دو ملا کر کھائے (تا کہ کوئی زیادہ نہ کھا جائے اور کوئی ٹونے میں نہ رہ جائے۔)

۱۔ الترفیب والترہیب۔

۲۔ الترفیب والترہیب۔

۳۔ حلیۃ الاولیاء۔

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ کو زمین سے چپکا دیا کرتا تھا اور یہ بھی کرتا تھا کہ پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتا تھا، حضرت ابو ہریرہؓ اپنا ایک واقعہ یوں بھی بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے تین روز تک کھانے کو کچھ نہ ملا جس کی وجہ سے ایسا ضعف ہو گیا کہ صفہ تک جانا چاہتا تھا تو چلتے چلتے گر جاتا تھا، یہ حالت دیکھ کر لڑکے کہنے لگے، ابو ہریرہؓ دیوانہ ہو گئے، میں نے کہا تم دیوانے ہو، تم دیوانے ہو، جو کسی بے چارے کو بغیر حال معلوم کئے دیوانہ بتا رہے ہو، اسی طرح گرتے پڑتے میں صفہ تک پہنچا وہاں دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شرید کے دو پیالے ہدیہ پیش کئے گئے ہیں اور آپ ان پیالوں کو اصحاب صفہ کو کھلا رہے ہیں، قریب ہو کر میں بار بار اچکنے لگا تا کہ مجھ پر (بھی) آپ کی نظر پڑ جائے، اور مجھے بھی بلا لیں حتیٰ کہ وہ سب فارغ ہو گئے اور میں کھڑا کا کھڑا رہ گیا، ایک پیالہ کے کناروں میں جو کچھ رہ گیا تھا اس کو جمع فرما کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عنایت فرما دیا جو ایک انتم سے زیادہ نہ تھا اور فرمایا اکمل بسم اللہ (اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کھا لو) خدا کی قسم اس میں اتنی برکت ہوئی کہ میں اس کو کھاتا رہا، یہاں تک کہ میرا پیٹ بھر گیا۔

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ کے درمیان بھوک کی وجہ سے بے ہوش پڑا رہتا تھا اور راہ چلنے والے مجھے دیوانہ سمجھ کر میری گردن پر پاؤں رکھ کر جاتے اور دیوانگی بھلا کہاں دہتو بھوک کی وجہ سے بے ہوشی تھی۔

۱۔ حلیۃ الاولیاء

۲۔ الترغیب والترہیب

۳۔ اس وقت عرب میں دیوانگی کا یہ علاج سمجھا جاتا تھا کہ اس کی گردن پر پاؤں رکھ دیا جائے۔

۴۔ شکل ترمذی۔

گزارہ کی صورتیں

حضرات اصحاب صفہ کے گزارے کی مختلف صورتیں تھیں ایک صورت یہ تھی کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ آتا تھا تو آپ سب ان ہی کے پاس بھیج دیتے تھے اور خود ذرا بھی نہ کھاتے کیوں کہ آپ کو صدقہ کھانا درست نہیں تھا، اور جب آپ کے پاس ہدیہ آتا تھا تو ان کے پاس بھی بھیج دیتے تھے اور خود بھی کھاتے تھے۔ اور مدینہ منورہ کے رہنے والے صحابہؓ بھی ان حضرات کا خصوصی خیال رکھتے تھے، حلیۃ الاولیاء میں ہے کہ:

بنیت صفة لضعفاء المسلمون یوغلون البہامہ استطاعوا من خبر۔
 صفة ضعفاء مسلمین کے لئے بتایا گیا تھا لہذا (اہل و عیال اور مال والے) حضرات جس قدر بھی ہو سکتا تھا صفہ میں کھانے پینے کی چیزیں بھیجا کرتے تھے۔

ایک صورت ان حضرات کے گزارہ کی یہ تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان حضرات کو مدینہ منورہ سے اہل و عیال والے مسلمانوں پر تقسیم کر دیا کرتے تھے، چنانچہ حضرت محمد بن سیرین کا بیان ہے کہ:

کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إذا مسی بصر ناسا من اهل الصفة بین ناس من اصحابہ۔
 جب شام ہو جاتی تھی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کو دے کر صحابہؓ کو تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔

لہذا کوئی اپنے ساتھ ایک کو لے جا کر کھلاتا تھا اور کوئی دو افراد کو لے

جاتا تھا اور کوئی تین حضرات کی مہمانی اپنے سر لیتا اور گھر لے جا کر کھلاتا تھا حتیٰ کہ بعض صحابہ دس حضرات کو بھی لے جاتے تھے اور حضرت سعد بن عبادہ ہجرت اپنے ہمراہ اتنی افراد کو لے جاتے تھے اور اپنے گھر لے جا کر کھلاتے تھے۔

حضرت ابو ذر غفاریؓ فرماتے ہیں کہ میں (بھی) اصحاب صفہ میں شامل تھا جب شام ہو جاتی تو ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت کدہ پر حاضر ہو جاتے تھے لہذا آپؐ نے کس ایک ایک آدمی تقسیم کر دیتے تھے، پھر جو بیچ جاتے تھے جو (عموماً) دس یا کم و بیش ہوتے تھے ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ بٹھا کر اپنے کھانے میں سے کھلاتے تھے، جب ہم کھا کر فارغ ہو جاتے تھے تو آپؐ فرما دیتے تھے کہ (جاؤ) مسجد میں سو جاؤ، ایک روز ایسا ہوا کہ میں پیٹ کے بل مسجد میں سو رہا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں گذر ہوا تو آپؐ نے پیر کے اشارے سے مجھے جگا کر فرمایا کہ اے جنتیؓ یہ کس طرح لینے ہو؟ یہ تو شیطان کا ایستائے۔

حضرت حفصہ بن فیس غفاریؓ فرماتے ہیں جو اصحاب صفہ میں سے ہیں کہ (ایک روز) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ حکم دیا (کہ اصحاب صفہ کو ہمراہ لے جا کر کھلائیں) لہذا کوئی شخص ایک آدمی کو لے گیا کوئی دو کو لے گیا، حتیٰ کہ ہم پانچ افراد بیچ گئے، لہذا رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ چلو میرے ساتھ آؤ، لہذا ہم آپؐ کے ہمراہ چل دیے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پہنچے وہاں پہنچ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ:

۱۔ صلیہ الاولیاء۔

۲۔ غالباً یہ اس وقت ہوتا ہوگا جب کہ اصحاب صفہ منگم ہوتے تھے۔

۳۔ جنتی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا نام ہے۔

۴۔ صلیہ الاولیاء۔

یا عائشہ اطعمنا واسقنا اے عائشہ! ہم کو کھلاؤ پیالو۔

پہناں چہ وہ دلیہ کی قسم کا پکا ہوا کھانا ملا میں جسے ہم نے کھا لیا، اس کے بعد وہ حریر لائیں اسے بھی ہم نے کھا لیا، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر وہ ایک چھوٹے پیالہ میں دودھ لائیں جب ہم نے دودھ پی لیا تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم جیسا ہوتو ہمیں سو جاؤ اور جیسا ہوتو مسجد میں جا کر سو رہو، ہم نے عرض کیا کہ (نہیں ہم یہاں نہیں سوتے) مسجد میں جاتے ہیں۔

ان روایات سے معلوم ہوا جو حضرات باقی رہ جاتے تھے حضور اقدس ان کو ساتھ لے جا کر اور خود اپنے ساتھ بٹھا کر کھلاتے پاتے تھے۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاص شان تھی کہ بھوک پیاس اور محنت و مجاہدہ میں اپنے صحابہ کے شریک حال رہتے تھے وہ بھوکے ہیں تو آپ بھی بھوکے ہیں، اصحاب صفہ کا کھانا دوسروں کے ذمہ کر رہے ہیں تو خود بھی ان کو کھلا رہے ہیں، ان کے پیٹوں پر ایک پتھر ہے تو آپ کے شکم مبارک پر دو پتھر ہیں، صحابہ مسجد بنا رہے ہیں تو آپ بھی اس محل میں شریک ہیں، صحابہ خندق کھود رہے ہیں تو آپ بھی ان کے ہمراہ بنفوس نفیس شریک عمل نظر آتے ہیں، غزوہ بدر کو جارہے ہیں، سواری کے لئے اونٹ کم ہیں تو فی اونٹ تین افراد کو شریک فرماتے ہیں اور اپنے لئے مستقل اونٹ نہیں رکھتے بلکہ حضرت علی اور حضرت ابولبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ ایک اونٹ میں شریک ہو جاتے ہیں اور اپنے نمبر پر پیدل چلتے ہیں اور جب دونوں سوار ہو جاتے اور عرض کرتے کہ آپ سوار رہیں آپ کی طرف سے ہم پیدل چل لیں گے تو ارشاد فرماتے کہ:

ما انتما باقوی مبنی و ما انا
 باغنی عن الاجر منکم
 (مشکوٰۃ شریف)

تم مجھ سے زیادہ طاقت ور نہیں اور نہ
 بات ہے کہ میں تمہاری بہ نسبت اجر
 کا کم محتاج ہوں بلکہ میں اور تم سب
 ہی اجر کے محتاج ہیں پھر میں کیوں نہ
 پیدل چلوں

فصلی اللہ تعالیٰ علی سیدہ سلسلہ محمد و آلہ بقرہ
 حسن کمالہ و جمالہ .

حضرت ابو بکرؓ کے بیٹے حضرت عبدالرحمنؓ فرماتے ہیں کہ اصحاب صفہ بے
 سرو سامان حضرات تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جس
 کے پاس دو کا کھانا ہو وہ تیسرے کو لے جائے اور جس کے پاس چار کا کھانا ہو وہ
 پانچویں کو لے جائے (ایک روز ایسا ہوا کہ میرے باپ حضرت) ابو بکرؓ تین
 آدمیوں کو لے آئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دس آدمیوں کو لے گئے اور
 ہمارے والد صاحب (مہمانوں کو گھر پہنچا کر) پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
 کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور وہیں کھانا کھالیا اور کھانے کے بعد پھر وہیں
 ٹھہرے رہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ لی، نماز پڑھ کر پھر آپ کی
 خدمت میں حاضر ہوئے حتیٰ کہ آپ نے کھانا کھالیا (اور آپ کے ساتھ حضرت
 ابو بکرؓ نے بھی کھایا اس کے بعد پھر دیر تک بیٹھے رہے، پھر اچھی خاصی رات
 گزرنے کے بعد گھر آ گئے، گھر آنے پر آپ کی اہلیہ محترمہ نے عرض کیا کہ اپنے
 مہمانوں کو چھوڑ کر اتنی دیر آپ کس وجہ سے غیر حاضر رہے؟ والد صاحب نے
 دریافت فرمایا کہ تم نے ابھی تک ان کو کھانا نہیں کھلایا؟ اہلیہ محترمہ نے عرض کیا
 کہ انہوں نے آپ کے بغیر کھانے سے انکار کر دیا، یہ سن کر حضرت ابو بکرؓ کو غصہ
 آ گیا اور فرمایا خدا کی قسم میں آج کے اس کھانے میں سے کبھی نہ کھاؤں گا،

حضرت ابو بکرؓ کا یہ فرمانا تھا کہ آپ کی بیوی نے بھی قسم کھالی کہ میں بھی نہ کھاؤں گی اور مہمانوں نے بھی قسم کھالی کہ ہم بھی (ابو بکرؓ کے بغیر) نہ کھائیں گے۔ جب یہ منظر سامنے آیا تو حضرت ابو بکرؓ کا غصہ فرو ہو گیا اور فرمایا کہ ہمارا غصہ شیطان کی طرف سے ہے لہذا کھانا منگا کر کھانا شروع کر دیا۔ اور آپ کے ساتھ مہمانوں نے بھی کھایا، اس کھانے میں اس قدر برکت ہوئی کہ جب کوئی لقمہ اٹھاتے تھے تو نیچے سے وہ اسی قدر بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتا تھا، یہ ماجرا دیکھ کر (تعجب سے) حضرت ابو بکرؓ نے بیوی سے فرمایا کہ قبیلہ بنی فراس والی یہ کیا ماجرا ہے، بیوی نے (بھی تعجب سے) عرض کیا کیا بتلاؤں میرا دل باغ باغ ہو جا رہا ہے یہ تو باوجودیکہ کھایا جا رہا ہے پھر بھی اس سے تین گنا زیادہ ہے جتنا پہلے تھا، بہر حال سب نے کھایا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی اس کھانے میں سے بھیجا، بعد میں ہم کو معلوم ہوا کہ آپ نے بھی اس میں سے کھایا۔

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ میں اصحاب صفہ میں سے تھا، ایک روز میں نے روزہ رکھا جب شام ہوئی تو نماز پڑھ قضائے حاجت کے لئے چلا گیا، کیوں کہ اس روز میرے پیٹ میں تکلیف تھی، جب میں واپس آیا تو کھانا کھایا جا چکا تھا اور اصحاب صفہ فارغ ہو چکے تھے، اب میں نے دل میں سوچا کہ کس کے پاس پہنچوں غور کرنے کے بعد دل میں آیا کہ عمر بن الخطابؓ کے پاس جاؤں

۱۔ بخاری و مسلم

۲۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو کوئی قسم کھائیوے اور پھر اس کے خلاف کرنے کو اس کے پورا کرنے سے اچھا سمجھے تو اپنی قسم کا آثار دیدے اور جو بہتر ہے اسی کو کر لے حضرت صدیق اکبرؓ نے اس پر عمل کیا جب ایسی صورت پیش آئے تو علماء سے تفصیلی طور پر مسئلہ معلوم کر کے عمل کر لیں۔

وہ اس وقت مسجد میں موجود تھے اور نماز کے بعد نفلیں بڑھ رہے تھے، جب وہ نفلوں سے فارغ ہو گئے تو میں ان کے قریب ہو گیا، اور عرض کیا کہ مجھے کوئی آیت سکھا دیجئے (آیت کا صرف بہانہ تھا ورنہ حقیقتاً) میرا مطلب یہ تھا کہ (باتوں باتوں میں) کھانے کو پوچھ لیں اور ساتھ لے جا کر کھلا دیں، انہوں نے مجھے سورہ آل عمران کی کچھ آیتیں سکھا دیں اور مسجد سے اٹھ کر گھر کو چل دیئے، میں بھی ان کے ساتھ چل دیا، حتیٰ کہ جب دروازہ پر پہنچے تو مجھے چھوڑ کر اندر چلے گئے اور دیر ہو جانے پر بھی اندر سے میری کوئی خبر نہ لی، میں نے خیال کیا کہ باہر نکلنے کے کپڑے اتارنے میں دیر ہو گئی ہے، میرے لئے کھانا بھیجنے والے ہیں لیکن بہت دیر ہو گئی اور میرے لئے کچھ بھی اندر سے نہ آیا تو میں چل دیا، چلا جا رہا تھا، کہ سامنے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہوئے مل گئے، آپ نے فرمایا ”ابو ہریرہؓ آج تو تمہارے منہ کی بو (جو روزہ کی وجہ سے ہو جایا کرتی ہے) بڑی تیز ہے“ میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ! میں نے آج روزہ رکھا تھا اور اب تک افطار کی نوبت نہیں آئی اور نہ کچھ افطار کے لئے میرے پاس ہے، فرمایا آؤ میرے ساتھ چلو میں آپ کے ساتھ چل دیا حتیٰ کہ آپ اپنے دولت کدہ پر پہنچ گئے اور باندی سے فرمایا کہ لاؤ وہ پیالہ لے آؤ، چنانچہ وہ پیالہ لے آئی جس میں ذرا بہت کھانا تھا جو صرف اس کے کناروں میں لگا ہوا تھا، میں نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا اور پیالہ میں ہر طرف کو ٹول ٹول کر نکالتا رہا حتیٰ کہ میرا پیٹ بھر گیا۔

حافظ ابو نعیم حضرت ابو ہریرہؓ کے متعلق تحریر فرماتے ہیں کہ:

۱۔ دوسری روایت میں حضرت عمرؓ نے دوسرے روز فرمایا کہ ہمارے پاس کچھ ہوتا تو تم کو کھلا دیتے لیکن اس وقت ہم تم پر ادر تھے۔

۲۔ صحیحہ الامالیہ۔

وہ صفہ میں قیام کرنے والوں میں سب سے زیادہ مشہور ہیں حضور اقدس ﷺ جب تک بقید حیات رہے حضرت ابو ہریرہؓ صفہ ہی میں رہے اور وہاں سے منتقل نہیں ہوئے صفہ میں اقامت کرنے والوں کو اور وہاں آکر قیام کرنے والوں کو خوب جانتے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب اصحاب صفہ کو کھانے کے لئے بلانے کا ارادہ فرماتے تو حضرت ابو ہریرہؓ کے پاس پہنچتے اور ان سے ارشاد فرماتے کہ اصحاب صفہ کو بلاؤ اور جمع کرو کیوں کہ حضرت ابو ہریرہؓ ان سب کو خوب جانتے تھے اور ان کے مراتب سے بھی خوب واقف تھے۔

وهو (يعني ابا هريرة) اشهر من سكن الصفة واستوطنها طول عمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستقل عنها وكان عريف من سكن الصفة من الغاطنين ومن نزلها من الطائفين كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يجمع اهل الصفة لطعام حضره تقدم الي ابي هريرة ليدعوهم ويجمعهم لمعرفة بهم ومنازلهم ومراتبهم۔

حلیۃ الاولیاء

ایک روز کا واقعہ ہے جو بخاری شریف میں نقل کیا گیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ سخت بھوک کی وجہ سے میں راستہ میں بیٹھ گیا جہاں سے صحابہ گزرتے تھے، چنانچہ حضرت ابو بکرؓ تشریف لائے، میں نے ان سے قرآن مجید کی ایک آیت پوچھی اور میرا مطلب آیت پوچھنا نہ تھا بلکہ یہ تھا کہ اپنے ساتھ لے چلیں اور کھانا کھلا دیں، (لیکن وہ آیت بتا کر) گزرے چلے گئے، اور مجھے ساتھ نہ لیا، پھر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو القاسم صلی

اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مجھے دیکھ کر مسکرائے اور چہرہ دیکھ کر آپ نے میرا مقصد پہچان لیا اور فرمایا کہ ابو ہریرہ! میں نے عرض کیا بیک یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)! فرمایا آؤ چلے آؤ، میں آپ کے پیچھے پیچھے چلے جاتا ہوں کہ آپ اپنے دولت کدہ تک پہنچ گئے، دروازے پر پہنچ کر آپ نے گھروالوں سے اندر آنے کی اجازت چاہی، چنانچہ آپ کو اندر بلا یا گیا (اور چوں کہ میرے لئے بھی اجازت لی تھی اس لئے میں بھی آپ کے ساتھ اندر چلا گیا، گھر میں ایک پیالہ میں دودھ رکھا ہوا تھا آپ نے گھروالوں سے پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ عرض کیا فلاں شخص نے خدمت عالی میں ہدیہ بھیجا ہے۔

اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ ابو ہریرہ! میں نے عرض کیا بیک یا رسول اللہ! فرمایا جاؤ، اصحاب صفہ کو بلاؤ، اصحاب صفہ (صرف) اسلام کے مہمان نہ تھے نہ ان کے پاس گھریار تھا نہ مال و عیال، نہ کسی خاص آدمی کے یہاں ٹھہرے ہوئے تھے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ کی کوئی چیز آتی تو ساری اصحاب صفہ کے لئے بھیج دیتے تھے اور اس میں سے ذرا بھی استعمال نہ فرماتے تھے اور جب آپ کے پاس ہدیہ آتا تھا تو ان سب کو مل کر کھلا دیتے تھے اور خود بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاتے تھے اور جب آپ نے فرمایا کہ اصحاب صفہ کو بلاؤ تو میرے نفس کو یہ بات بڑی گراں گذری اور جی ہی جی میں کہا کہ اصحاب صفہ کے مقابلے میں اتنے دودھ کی کیا حقیقت ہے (جو آپ سب کو بلوار ہے ہیں چوں کہ میں زیادہ بھوکا تھا اور آپ مجھے ساتھ بھی لائے ہیں لہذا) میں زیادہ حقدار ہوں کہ اس میں سے کچھ ذرا سائل جائے جس سے قوت حاصل ہو اور مزید یہ بات بھی کھٹکی کہ جب اصحاب صفہ آجائیں گے تو آپ مجھ ہی کو حکم فرمائیں گے کہ ان کو پلا (پلانے والے کا نمبر آخر میں ہوتا ہی ہے اس لیے) قوی اندیشہ ہے کہ میرے لئے ذرا سا بھی نہ بچے گا۔

لیکن چونکہ اللہ جل شانہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر کوئی چارہ ہی نہ تھا، اس لئے میں گیا اور اصحاب صفہ کو بلا لایا، وہ سب آگئے اور دروازے پر پہنچ کر انہوں نے اندر آنے کی اجازت چاہی آپ نے اجازت دے دی، اور اندر آ کر بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا: ابو ہریرہ! میں نے عرض کیا بلیک یا رسول اللہ! فرمایا لو یہ پیالہ لے کر سب کو پلاؤ، میں نے پیالہ لیا اور سب کو پلانا شروع کیا (خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ) دودھ ذرا سا دودھ بڑھتا ہی گیا، کچے بعد دیگرے میں ہر ایک کو دیتا گیا اور سب نے پیٹ بھر کر پی لیا حتیٰ کہ وہ پیالہ لے کر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، کیوں کہ آپ سب کے آخر میں تشریف رکھتے تھے، آپ نے مجھ سے پیالہ لے لیا اور مسکراتے ہوئے فرمایا ابو ہریرہ! میں نے کہا بلیک یا رسول اللہ! فرمایا اب میں اور تم ہی رہ گئے، میں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ آپ نے درست فرمایا۔

اس کے بعد مجھ سے فرمایا منھو اور پیو میں نے بیٹھ کر پیا اور بس کر دیا، آپ نے فرمایا اور پیو، میں نے اور پیا، فرمایا اور پیو، آپ اسی طرح فرماتے رہے کہ اور پیو اور پیو، کہ حتیٰ کہ میں نے کہہ دیا قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اب تو اس کے جانے کی ذرا بھی جگہ نہ رہی، فرمایا لاؤ مجھے دو میں نے پیالہ آپ کو پیش کر دیا، آپ نے اللہ کی حمد بیان کی اور ہمسرا اللہ پڑھ کر (ہم سب کا بیچا ہوا) نوش فرمایا۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوریں ہوتی تھیں تو حضرات اصحاب صفہ کے لئے روزانہ ایک مد دو ٹھنڈوں کے گزارے کے لئے عنایت فرما دیتے تھے جس کو حضرت طلحہ بن عمرو بن عدیوں روایت فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص باہر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا تو اگر مدینہ میں اس کی کسی سے

جان پہچان ہوتی تھی تو اس کے پاس قیام کر لیتا تھا اور اگر کوئی جان پہچان والا نہ ہوتا تھا تو صف میں ٹھہر جاتا تھا، میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جن کو صف میں ٹھہرنا پڑا تھا، چنانچہ میں نے ایک شخص کو اپنا ساتھی (خوراک کا شریک) بنا لیا تھا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روزانہ ہر دو شخصوں کے لئے ایک مد عنایت کیا جاتا تھا۔

ایک روز یہ واقعہ پیش آیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا سلام پھیرا تو اصحابِ صف میں سے ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا۔

بادرسول اللہ فدا حرق اے اللہ کے رسول (ﷺ) کھجوروں
النمر بطوننا ونحرفت عنا نے ہمارے پیٹ جلا دیئے روزانہ
انکا کھانا دشوار ہو گیا اور مونے کپڑے
الخنف۔
جو ہم پہنے ہوئے ہیں پھٹ گئے۔

یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اپنا حال بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا:

”دس سے آٹھ اوپر ایسے دن گذرے ہیں کہ میں نے اور میرے ایک ساتھی نے صرف اراک (پیلو) کے پھل کھا کر گزارا کیا ہے، مکہ میں ہم نے ایسی ایسی سختیاں اٹھائی ہیں اس کے بعد ہم مدینہ میں اپنے انصاری بھائیوں کے پاس آ گئے ان کے پاس کھانے کا اکثر سامان کھجوریں ہی ہیں (ان کے خرچ میں) انہوں نے دریغ نہیں کیا بلکہ ہمارے ساتھ سلوک کیا، اب میں ان کے سوا اور چیزیں کہاں سے لاؤں، اللہ کی قسم اگر میں تمہارے لئے گوشت روٹی پاتا تو تم کو کھلا دیتا لیکن یہ بات تم سے ضرور کہے دیتا ہوں کہ شاید تم ایسا زمانہ ضرور

پاؤ گے جس میں کعبہ کے پردوں کی طرح (اچھے کپڑے) پہنوں گے اور صبح و شام (مختلف پیالے) تمہارے سامنے رکھے جائیں گے۔

حضراتِ اصحابِ صفہ کے گزارے کی ایک یہ بھی صورت تھی کہ کچھ صحابہؓ لکڑیاں کاٹ کر لاتے تھے اور ان کو فروخت کر کے حضراتِ اصحابِ صفہ کے لئے کھانا فراہم کرتے تھے جیسا کہ حضرت انسؓ کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ: "کچھ لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ ہمارے ساتھ ایسے لوگوں کو بھیج دیں جو (ہماری قوم کو) قرآن اور سنتِ نبویہ کی تعلیم دیں، ان کے عرض کرنے پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار میں سے ان ستر حضرات کو بھیج دیا جو قرآن کہلاتے تھے، ان میں میرے ماسوں بھی تھے جن کا نام حرام تھا، ان حضرات کا مشغلہ (مدینہ میں رہتے ہوئے) یہ تھا کہ رات کو قرآن شریف پڑھتے تھے اور آپس میں ایک دوسرے کو سنا کر یاد کرتے تھے، اور دن کو پانی لا کر مسجد میں رکھتے تھے اور لکڑیاں کاٹ کر لاتے تھے اور ان کو فروخت کر کے اصحابِ صفہ اور فقراء کے لئے کھانا خریدتے تھے، ان میں سے ستر قاریوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھیج دیا، لیکن ان لوگوں نے دھوکا دیا اور ان حضرات کو منزل مقصود پر پہنچنے سے قبل شہید کر دیا، ان شہیدوں نے دنیا سے چلتے وقت دعا کی کہ اے اللہ تو ہمارے نبی کو خبر پہنچا دے کہ ہم تجھ سے آملے ہیں اور تو ہم سے راضی ہو گیا اور ہم تجھ سے، چنانچہ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی۔"

کپڑوں کی کمی

اصحاب صفہ جیسا کہ کھانے پینے کے اعتبار سے بے سرو سامان تھے اسی طرح ان کے پاس کپڑوں کی بھی کمی تھی، حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے ستر اصحاب صفہ کو اس حال میں دیکھا کہ ان میں کسی کے پاس بھی بڑی چادر نہ تھی (جس سے پورا جسم ڈھک لیتے) ہر ایک کے پاس ایک تہمتھا اور یا چھوٹی سی چادر تھی، اسی کو ہر ایک نے اپنی اپنی گردن میں باندھ رکھا تھا جو کسی کے آدھی پنڈلیوں تک اور کسی کے ٹخنوں تک پہنچی ہوئی تھی اور ستر مچھانے کے لئے اسے اپنے ہاتھ سے پکڑے ہوئے تھے۔

دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ میں نے ستر اصحاب صفہ کو دیکھا کہ ایک ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے تھے جن میں سے کسی کا کپڑا ٹخنوں تک پہنچا ہوا تھا اور کسی کا اس سے نیچا تھا جب رکوع کرتے تھے تو اسے ہاتھ سے پکڑ لیتے تھے تاکہ ستر نہ کھل جائے۔

حضرت وائل بن الاسقع رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں اصحاب صفہ میں سے تھا اور ہم میں سے کسی پر بھی پورا کپڑا نہ تھا (جس سے بدن ڈھک جاتا، چوں کہ کپڑا دھونے اور نہانے کے لئے کم از کم دو کپڑوں کا ہونا ضروری ہے تاکہ ایک پہنے رہے اور دوسرے کو دھو کر یا غسل کر کے سکھا دیوے، اس لئے ان کپڑوں کے دھونے اور نہانے کی نوبت کم آتی تھی جس کی وجہ سے) پسینہ کے باعث ہماری کھالوں پر میل اور غبار کافی مقدار میں چڑھ گیا۔

حضرت ابو سعید خدریؓ کو بعض علماء نے اصحاب صفہ میں سے شمار کیا ہے

۱۔ علیہ الاولیاء۔

۲۔ علیہ الاولیاء۔

۳۔ علیہ الاولیاء۔

لیکن حافظ ابو نعیم کا فرمان ہے۔

و حالہ قریب من حال اہل
الصفہ وان کمان انصاری
الذاد لابنارہ النصر
واختبارہ الففر والتعفت

اور وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے فقر کو ترجیح دی تھی اور فقر کو اختیار کرتے ہوئے مخلوق کے سامنے حاجت نہ رکھنے کو اپنا شیوہ بنایا تھا۔

ان ہی حضرت ابوسعید خدریؓ کی ایک روایت میں ہے (جو آئندہ پوری آئے گی) کہ ایک روز فرض ضعفائے مہاجرین کی ایک جماعت کے ساتھ بیٹھ گیا، اس وقت ان کا یہ حال تھا کہ کپڑوں کے نہایت ہی کم ہونے کی وجہ سے اس طرح آگے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک دوسرے کو آڑ بنا کر اپنے ننگے پن کو چھپاتا تھا۔

اصحاب صفہؓ پر اللہ جل شانہ کا خاص کرم

حضرات اصحاب صفہ رضی اللہ عنہم اجمعین اپنی محتاجی اور فاقدہ کشی میں مست تھے لیکن پھر بھی طبعی طور پر بتقاضائے بشریت کبھی انکو اس امر کی تمنا ہوئی کہ ہمارے پاس دنیا کے سامان ہوتے تو اچھا تھا، اس کے جواب میں اللہ جل شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

وَلَوْ نَسِطَ اللَّهُ الرَّزْقَ لَجَبَدُوا
لَبَغُوا فِي الْأَرْضِ

اور اگر اللہ تعالیٰ خوب دیدے دے دزق بندوں کو تو ضرور بغاوت کریں زمین میں

حافظ ابو نعیم حلیۃ الاولیاء میں اپنی سند کے ساتھ عمرو بن حریرث وغیرہ سے نقل کرتے ہیں کہ یہ آیت اصحاب صفہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی

کیوں کہ انہوں نے دنیا (پاس ہونے کی) تمنا کی تھی، اس کے بعد لکھتے ہیں کہ:

اللہ جل شانہ نے دنیا ان کے پاس آنے سے روک دی اور ان تک نہ پہنچنے دی تاکہ ان کی ممتاز جگہ والی زندگی کو باقی رکھیں اور ان کو (فتنہ کی چیز سے) بچائیں تاکہ سرکش نہ ہو جائیں لہذا اس سبب سے وہ اللہ کی حفاظت میں (حساب کے) بوجھوں سے محفوظ ہو گئے اور مال ہونے پر جو اللہ کو بھولتے اور دنیا میں پڑنے کی وجہ سے جو مختلف حالات سے گذرتے ان سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچالیا۔

زوری اللہ عزوجل عنہم
الدنيا وفضلها البقاء عليهم
ووصونا لهم لنلا بطغوا
فصاروا قس حماة
محفوظين من الاثقال
ومحرودين من الاشغال
لانذمهم الاموال
ولا تغبر عليهم الاحوال.

در حقیقت اللہ جل شانہ کا یہ بہت بڑا کرم ہے کہ کسی کو دنیا کے مال و متاع سے بچادے اور اسے تقنوں کی چیزوں میں نہ ڈالے جو اس کی آخرت کو برباد کر دیں ہر مذہبی شریف کی ایک روایت میں ہے کہ:

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بلاشبہ جب اللہ جل شانہ کسی بندہ سے محبت کرتے ہیں تو اسے دنیا سے اس طرح بچاتے ہیں جیسے تم اپنے مریض کو پانی سے پرہیز کراتے ہو۔

ان رسول اللہ ﷺ قال اذا
احب الله عبدا حماة
الدنيا كما يظل احدكم
بحمى سقيمہ الماء.

ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اشنتان بکرمہما ابن ادم
بکرمۃ الموت والموت خیر
للمومن من الفتنۃ وبکرمۃ
فلة المال وفلة المال اقل
الحساب.

انسان دو چیزوں کو اچھا نہیں سمجھتا
حالاں کہ وہ دونوں اس کے لئے
بہتر ہیں وہ موت سے کراہت
کرتا ہے حالاں کہ موت مومن کے
لئے بہتر ہے جس کی وجہ سے فتنہ
سے بچ جائے گا اور وہ مال کی کمی کو
اچھا نہیں سمجھتا حالاں کہ مال کی کمی
حساب کی کمی کا سبب ہے۔

حضرت اسامہ بن زیدؓ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا، میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں تو دیکھا اس میں اکثر بے پیسہ والے
ہیں اور مال والے ابھی حساب دینے کے لئے انکے ہوئے ہیں ہاں جن
مالداروں کو دوزخ میں جانا تھا، ان کو دوزخ میں بھیجنے کا حکم نافذ ہو چکا تھا اور میں
دوزخ کے دروازہ پر (اس کے اندر کا حال دیکھنے کے لیے) کھڑا ہوں تو دیکھا کہ
اس میں اکثر عورتیں ہیں۔

ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرات اصحابِ صفہ کے پاس
تشریف لائے اور ان سے دریافت فرمایا کیا حال ہے؟ اس پر انہوں نے عرض
کیا کہ اللہ نے خیریت کے ساتھ رکھا ہے، اس کے بعد سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم آج اچھی حالت میں ہو (کیوں کہ دین کیلئے)

مکتوہ شریف۔

۱
۲ میدانِ حشر کا ایک منظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تھا اس کو آپ نے ان لفظوں میں بیان
فرمایا۔

۳ بخاری شریف۔

سکھاتے ہو اور اس پر عمل کرتے ہو اور فتنوں میں ڈالنے والی چیزیں تمہارے پاس نہیں ہیں) اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب کہ صبح کو ایک پیالہ میں کھاؤ گے اور شام کو دوسرا پیالہ تمہارے سامنے رکھا جائے گا (جس میں صبح کے سالن کے علاوہ دوسرا سالن ہوگا اور جب کہ دونوں وقت علیحدہ علیحدہ سالن پکے گا تو روٹی کی ہی بہتات ہوگی اور طرح طرح کی روٹی پکائی جائے گی اور تم اپنے مکانوں کو اس طرح کپڑوں سے ڈھانکو گے جیسے کعبے کو ڈھانکا جاتا ہے، یہ سن کر حضرات اصحابِ صفہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) یہ تو فرمائیے کہ وہ مال پاس ہونے کا دور اس صورت میں آئیگا جب کہ ہم دیندار ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں! اس پر انہوں نے عرض کیا کہ بس تو ہم اس روز اچھے حال میں ہوں گے (کیوں کہ دین پر بھی چل رہے ہوں گے اور دنیا جو پاس ہوگی اسے بھی دین پر خرچ کریں گے اس لئے اس وقت ہم صدقے کریں گے اور غلام آزاد کریں گے) اور یہ ثواب بھی ملے گا جس سے ہم آج مال پاس نہ ہونے کی وجہ سے محروم ہیں پھر آپ یہ کیسے فرما رہے ہیں کہ ہم آج اچھی حالت میں ہیں)

یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں (نہیں) تم آج ہی بہتر ہو جب دنیا تم کو ملے گی تو آپس میں حسد کرنے لگو گے اور آپس کے تعلقات تو زودو گے اور آپس میں بغض رکھنے لگو گے، مستدرک حاکم میں ہے کہ آپ نے فرمایا تم آج ہی بہتر ہو آج تم آپس میں محبت رکھتے ہو اور اس روز ایک صحابہ نے جو یہ دریافت کیا کہ وہ مالدار کی حالت میں آئے گا کہ ہم اپنے دین پر ہوں گے؟ اس سوال سے ان حضرات کے ایک خاص ذہن کا پتہ چلتا ہے اور وہ یہ کہ مالدار کی انکو اس صورت میں بھائی تھی جب کہ دین پر ہوتے ہوئے زندگی گزارنی جائے لیکن اگر مال سے دین برباد ہوتا ہو تو وہ اس سے کسوں کو بھانگنے والے تھے۔ (منہ عفا اللہ عنہ)

دوسرے کی گردن مارو گئے، دنیا جب آتی ہے تو تنہا نہیں آتی بلکہ اپنے ساتھ حسد، بغض، عداوت، مقدمہ بازی، حرص، آخرت سے غفلت، اللہ سے بعد، خواہشات نفس کی پیروی اور دیگر مصیبتیں لے کر آتی ہے لہذا وہ بندے بہت مبارک ہیں جو دنیا کے ساز و سامان سے محروم ہیں نہ دنیا میں کسی سے الجھیں نہ آخرت میں حساب کے میدان میں کھڑے پریشان ہوں۔

حضرات اصحاب صفہؓ کا اللہ کے یہاں مرتبہ

فقرو فاقہ بڑی اچھی نعمت ہے بشرطیکہ کوئی اس کی قدر کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے (یعنی میری رضا اور خوشی) اپنے ضعیفوں (کی خیر خبر لینے) میں تلاش کرو (مال کے اعتبار سے ضعیف ہوں یا اور کسی اعتبار سے) کیوں کہ تم کو جو رزق ملتا ہے اور تمہاری جو مدد ہوتی ہے وہ تمہارے ضعیفوں کی وجہ سے ہے، دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **رب اشعث مدفوع عن الاسباب لو افسد صلی اللہ** بہت سے وہ بندے جس کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اور جن کو دروازوں سے ہٹا دیا جاتا ہے **لاہرہ** (ان کا اللہ کے یہاں یہ درجہ ہے) کہ اگر اللہ سے کوئی کام کرانے کی قسم کھالیں تو اللہ ان کی قسم پوری فرمادیں۔

ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہؓ سے فرمایا کہ اے عائشہ مساکین سے محبت رکھو اور ان کو اپنے سے قریب کر کیوں کہ ایسا کرنے سے اللہ تجھے اپنے قریب کرے گا۔

متدرک عالم

مکتوبہ شریف

ح مکتوبہ شریف۔

حضرت ابو سعید خدریؓ روایت فرماتے ہیں کہ میں (ایک مرتبہ) بے پیسہ والے مہاجرین کی ایک جماعت میں بیٹھ گیا اور یقین جانو کہ اس وقت ان کے پاس کپڑوں کی اس قدر کمی تھی کہ ننگے پن کی وجہ سے ایک دوسرے کی آڑ لے کر اپنے بدن کو چھپاتے تھے، وہیں ایک قرآن پڑھنے والا سب کو قرآن سن رہا تھا کہ اچانک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو قرآن سنانے والے صاحب خاموش ہو گئے جب وہ خاموش ہو گئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ تم کیا کر رہے تھے؟ ہم نے عرض کیا "اللہ کی کتاب سن رہے تھے" یہ جواب سن کر فرمایا الحمد للہ الذی جعل من امنی من امرئ ان اضمن نفسی من غیرہ (سب تعریف) اس اللہ کے لئے ہے جس نے میری امت میں ایسے لوگوں کو کر دیا جن کے ساتھ مجھے اپنے آپ کو خیرائے رکھنے کا حکم ہوا ہے اس کے بعد آپ ہمارے بیچ میں بیٹھ گئے تاکہ (نشست کا امتیاز ختم کرنے کے لئے) اپنے آپ کو ہم میں ملا کر برابری والی شان ظاہر فرمائیں۔

اس کے بعد آپ نے (حلقہ بنانے کے لئے) دست مبارک سے اشارہ فرمایا لہذا سب نے حلقہ بنا لیا اور سب کے چہرے آپ کی طرف متوجہ ہو گئے اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ بے پیسہ والے مہاجرین کی جماعت تم یہ خوشخبری قبول کر لو کہ قیامت کے روز تم کو نور تام (پورا نور) عنایت کیا جائے گا، قیامت کے روز تم کو مالدار لوگوں سے آدھا دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے اور یہ آدھا دن (آج کل کے دنوں کے حساب سے پانچ سو برس کے برابر ہوگا، یہ جنت میں مزے کر رہے ہوں گے اور وہ حساب دے رہے ہوں گے۔ دوسری روایت میں ہے کہ جب آپ نے ان کو مالداروں سے پہلے جنت میں داخل ہونے کی

خوشخبری سنائی تو ان کے چہروں کے رنگ کھل گئے اس کے راوی حضرت عبد اللہ بن عمرؓ فرماتے تھے کہ ان کی خوشی دیکھ کر مجھے تمنا ہوئی کہ میں بھی ان میں سے ہوتا۔

حضرت خباب بن الارتؓ سورہ انعام کی آیت **لَا تَطْرُدِ الَّذِينَ** **بَنَدَعُونَ رَبَّهُمْ** **الآیۃ** کا شان نزول بیان فرماتے تھے کہ اقرع بن حابس اور غیبیہ بن حصن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے (یہ دونوں دنیا کے لحاظ سے مال و عزت والے تھے) جب یہ بارگاہ رسالت میں پہنچے تو دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلالؓ، حضرت عمارؓ، حضرت صہیبؓ اور خبابؓ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جب ان دونوں کی نظر ان خاصانِ خدا پر پڑی تو ان کو حقیر سمجھا اور ان کے ساتھ بیٹھنے کو اپنی کسر شان سمجھ کر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں عرض کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہم کو اپنے ساتھ بٹھانے کا اس طرح موقع دیں کہ عرب ہماری فضیلت سمجھیں، آپ کے پاس عرب کے وفود آتے ہیں لہذا ہم کو شرم آتی ہے کہ آنے والے لوگ ہم کو غلاموں کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھیں، لہذا جب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کریں تو آپ ان کو ہمارے ساتھ نہ بیٹھنے دیا کریں اور جب ہم آپ سے گفتگو کر کے فارغ ہو جائیں تو چاہیں تو آپ ان کو اپنی مجلس میں بٹھالیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گفتگو سنی تو (ان کو اسلام سے مانوس کرنے کے لئے) ان کی درخواست منظور فرمائی، ان دونوں نے عرض کیا کہ آپ اس کا عہد نامہ لکھ دیں لہذا آپ نے ایک کاغذ منگایا اور لکھنے کے لئے حضرت علیؓ کو بلایا کہ اچانک جبرئیل علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے۔

اخرجه في المشکوٰۃ ص ۳۹ مؤخره في الدرر السنی والذاری من ولعظه فلقد رأیت
الواہم اسفرت حتی تعلبت ان اکون معهم۔

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ
 رَبَّهُمْ بِالْعَدَاوَةِ وَالْغَيْبِ
 يُرِيدُونَ وَجْهَ مَا عَدَبَكَ
 مِنْ جَالِيهِمْ مِنْ شَيْءٍ
 مَا مِنْ حَسَبِكَ عَلَيْهِمْ
 مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ
 مِنَ الظَّالِمِينَ .

اور ان کو دور نہ کیجئے جو اپنے رب کو
 صبح و شام پکارتے ہیں اس کی رضا کا
 قصد رکھتے ہیں ان کا حساب ذرا بھی
 آپ سے متعلق نہیں اور نہ آپ کا
 حساب ذرا بھی ان سے متعلق ہے
 کہ آپ ان کو نکال دیں اور بے
 انصافوں میں سے ہو جائیں۔

اس آیت میں حضرات فقہائے مہاجرین کی یہ تعریف فرماتے ہوئے کہ
 اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں مجلس سے ہٹانے کی ممانعت فرمائی اور پھر اگلی
 آیت میں ایسی بے جا درخواست کرنے والوں کے متعلق فرمایا:

وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ
 بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا هَذَا مِنْ
 آيَاتِ اللَّهِ عَلَيْنَا مِنَ بَيْنِنا
 اللَّهُ بِالَّذِينَ كَفَرُوا .

اور اسی طور پر ہم نے ایک کو دوسرے
 کے ذریعہ آزمائش میں ڈال رکھا ہے
 تاکہ (یوں) کہیں کیا یہ لوگ ہیں
 جن کو ہم سب میں سے انتخاب کر کے
 ان پر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا ہے، کیا اللہ شکر گزاروں کو خوب جاننے والا نہیں۔

اس کے بعد اللہ جل شانہ نے ایماندار بندوں کی قدر بڑھانے کیلئے فرمایا:
 وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ
 بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ
 كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ
 الرَّحْمَةَ .

اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں
 جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں تو
 ان سے سلام علیکم فرمائیے (اور یہ
 بھی) فرمائیے کہ تمہارے رب نے
 رحمت اپنے ذمہ کر لی ہے۔

اس آیت شریفہ کے نازل ہونے کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اثر

ہوا کہ آپ نے اس کاغذ کو پھینک دیا اور ہم (مسکینوں) کو بلایا، ہم حاضر ہوئے تو آپ نے سلامِ عظیم فرمایا (جیسا کہ آیت میں ارشاد ہوا تھا) اور ہم آپ کے اس قدر قریب بیٹھ گئے کہ اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں سے ملا دیئے ان آیات کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے (کسی کے آنے پر) اپنی مجلس سے فقراء و مہاجرین کو نہ اٹھانے کا فیصلہ فرمایا، لیکن یہ بات ضرور تھی کہ جب تک آپ کو بیٹھنا ہوتا تھا ہمارے ساتھ بیٹھے رہتے تھے اور جب تشریف لے جانا ہوتا تھا تو ہم کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے لہذا اللہ جل شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

واضِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ
يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ
وَالْعِيسَى يُرِيدُونَ وَجْهَهُ
وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ
زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تَطْعُ
مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن
ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ
أَمْرًا فَرُطًا .

اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ
بٹھائے رکھئے جو اپنے رب کو صبح
و شام پکارتے ہیں، محض اس کی رضا
چاہتے ہیں اور دنیوی زندگی کی رونق
کے خیال سے آپ کی آنکھیں ان
سے نہ ہٹنے پائیں اور ایسے شخص کا کہا
نہ مانئے جس کے قلب کو ہم نے اپنی
یاد سے غافل کر رکھا ہے اور وہ اپنی
خواہشِ نفسانی پر چلتا ہے اور اس کا
حال حد سے گذر گیا ہے۔

حضرت خباب بن الارت فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے نازل
ہونے پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے (یعنی فقراء و مہاجرین کے)
ساتھ یہ طرز عمل ہو گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بیٹھے رہتے
تھے اور جب وہ وقت ہو جاتا تھا جس پر آپ کو اٹھنا ہوتا تو ہم خود ہی اٹھ جاتے
تھے اور آپ کو چھوڑ دیتے تھے اور اگر ہم نہ اٹھتے تو آپ بیٹھے ہی رہتے تھے اور ہم

کو چھوڑ کر اٹھ جانا گوارہ نہ فرماتے تھے، خواہ کتنی ہی دیر ہو جاتی۔

دوسری روایت میں ہے جس کے حضرت سلمان فارسیؓ راوی ہیں کہ جب سورہ کبف کی مذکورہ بالا آیات نازل ہوئیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فقراے مہاجرین کو تلاش کرنے کے لئے کھڑے ہو گئے حتیٰ کہ یہ حضرات آپ کو مسجد کے آخری حصہ میں مل گئے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول تھے ان حضرات پر نظر پڑی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يُمْنَبْنِي
حَتَّىٰ أَمْرَنِي أَنْ أَضْبُرَ
نَفْسِي مَعَ قَوْمٍ مِنْ أُمَّتِي .
یہ سب تعریف اللہ کے لئے ہے جس
نے مجھے اس سے پہلے موت نہیں دی
جب تک کہ مجھے یہ حکم نہیں دیا کہ اپنی
امت میں سے ایک جماعت کے
ساتھ اپنے کو ٹھہرائے رکھوں۔

اس کے بعد آپ نے فرمایا مَعَكُمْ الْحَبَا وَمَعَكُمْ الْمَنَاتُ
یعنی میرا بیٹا اور مرنا تمہارے ہی ساتھ ہے، حضرت جعیل بن سراقہ ضمریؓ بھی
اسحابِ صفہ میں سے تھے اور بہت ہی زیادہ مسکین اور حال سے بے حال تھے
ایک موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے (مال تقسیم فرماتے ہوئے) ان کو
کچھ بھی نہ دیا اور اقرع بن حابس اور عینہ بن حصن کو سو (اونٹ) عنایت فرمائے
کسی نے اس کا سبب پوچھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس
ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے عینہ اور اقرع جیسوں سے ساری
زمین بھی بھری ہو تو (اللہ کے نزدیک) تنہا جعیل ان سب سے بہتر ہو گا۔ یہی
لینے دینے کی بات تو ان کو اسلام قبول کرنے کے لئے مال دے کر مائل اور

مالوف کرتا ہوں اور جھیل کے لئے اسلام کافی ہے، (اس کے نزدیک مال کی کچھ حقیقت نہیں اسے اسلام ہی پر گمن رہنا چاہئے)

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے سوال کرتے ہوئے فرمایا تِلَاؤِ بَنَتْ مِی سَب سے پہلے کون داخل ہوگا؟ صحابہ نے عرض کیا اللہُ وَذَسُوْلُهُ اَعْلَمُ یعنی اللہ اور اس کا رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) ہی خوب جانتے ہیں، یہ جواب سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے وہ

فقراء و مہاجرین داخل ہوں گے جن	فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِیْنَ الذِّیْنَ
کی وجہ سے تکلیف دینے والی چیزوں	تُتْفِی بِہِمُ الْمَکَارِہُ بِمَوْتِ
اور حالتوں سے بچا جاتا ہے یعنی اللہ	اَخَذَہُمْ وَخَاجَتْہُمْ فِی
تعالیٰ ان کی وجہ سے امت کو تکلیف	صَدْرِہِ لَا یَسْتَطِیْعُ لہَا قَضَاءُ

دینے والی چیزوں اور حالتوں سے بچاتے ہیں) وہ بے چارے سینوں میں اپنی حالتیں دبائے ہوئے دنیا سے چلے جاتے ہیں جن کے پورا کرنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی تھی۔

اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ (جب وہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے لگیں گے) تو فرشتے کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہم تیرے فرشتے ہیں اور تیرے (مقرر کردہ انتظاموں کے) مہتمم ہیں اور تیرے آسمانوں کے رہنے والے ہیں، ان کو ہم سے پہلے جنت میں داخل نہ فرما اس کے جواب میں اللہ جل شانہ فرمائیں گے یہ میرے خاص بندے ہیں، جنہوں نے میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں بنایا اور ان کی فضیلت اس سے ظاہر ہے کہ علیہ السلام، مطلب یہ ہے کہ جھیل اسلام ہی کو اپنے لئے اتنی بڑی نعمت سمجھتے ہیں کہ ان کے نزدیک اسلام کے ہوتے ہوئے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔

دنیا میں) یہ مصیبت کی چیزوں سے (مخلوق کو) بچانے کا ذریعہ تھے (اور ان کے صبر و استقلال کا یہ عالم تھا کہ) ان کو اس حال میں موت آئی تھی کہ اپنی اپنی حاجتیں سینوں میں دبائے ہوئے تھے جن کو پوری کرنے کی کوئی صورت نہ تھی لہذا ان کی (یہ فضیلت سن کر بردروازہ سے فرشتے ان کے پاس (جنت میں) یوں کہتے ہوئے پہنچیں گے **سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنَغْفِرْ غَفْبَى الذَّادِ** یعنی تم پر سلام ہو بوجہ اس کے کہ تم نے صبر کیا پس اس جہاں میں تمہارا انجام یہ ہوا۔

اصحابِ صفہ اور دیگر فقراء کے لئے رونا کہ

فی سبیل اللہ خرچ کرنے سے عاجز ہیں

۹ھ میں غزوہ تبوک کے لئے تیار ہونے کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی اور اس سلسلہ میں صحابہ کرامؓ سے چندہ کی بھی اپیل کی جس میں حضرات صحابہؓ نے اپنے اپنے حوصلہ کے موافق خوب حصہ لیا، تبوک مدینہ منورہ سے بہت دور تھا، پیدل پہنچنا بہت ہی مشکل اور دشوار تھا اس لئے سواروں کا انتظام کیا گیا تھا، چند تنگ دست صحابہؓ تعداد میں سات افراد تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ ہماری بھی سواری کا انتظام فرمادیں تاکہ ہم بھی غزوہ میں شریک ہو سکیں، ان کی درخواست سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **لَا أَجْزُدُ مَا أَحْبَبْتُكُمْ عَلَيْهِ** (میرے پاس سواری نہیں ہے جس پر تم کو سوار کروں) یہ سن کر ساتوں حضرات روتے ہوئے اور غزوہ کی شرکت سے محرومی پر افسوس کرتے ہوئے آپ کے

پاس سے چلے گئے، ان سات حضرات میں سالم بن عمیرؓ بھی تھے جو اصحاب صفہ میں سے تھے اللہ رب العزت نے آیت ذیل میں ان حضرات کا اس طرح ذکر فرمایا ہے:

وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ
لَتَخْلِبُنَّ فُلُتَ لَا أَجْدَ مَا
أَحْمَلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا
وَاعْتَبِرْهُمْ تَقِيبُ مِنَ الذَّمْعِ
حَزْنَا إِلَّا نَجِدْوَ مَا يُنْفِقُونَ

اور نہ ان لوگوں پر کوئی گناہ اور الزام ہے جس وقت وہ آپ کے پاس اس واسطے آئے کہ آپ ان کو سواری دیدیں تو آپ نے ان سے فرمایا کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے جس پر تم کو سوار کروں وہ اس حال میں واپس ہوئے کہ اس رنج سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہ رہی تھیں کہ ان کو خرچ کرنے کو میسر نہیں۔

ان ساتوں حضرات میں سے ایک حضرت ابولیلیؓ اور ایک حضرت عبد اللہ بن مغفلؓ بھی تھے، یہ دونوں ساتھ ساتھ روتے ہوئے جا رہے تھے کہ راستے میں ابن یامین انصاری سے ملاقات ہو گئی انہوں نے سوال کیا کہ کیوں روتے ہو؟ دونوں نے اپنا قصہ سنایا اور رونے کی وجہ بتائی، لہذا ابن یامین نے ان کو ایک اونٹنی اور کھجوریں زادراہ کے طور پر دے دیں، چنانچہ دونوں حضرات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ میں شرکت کے لئے روانہ ہو گئے۔

ان ہی سات بزرگوں میں حضرت عتبہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، انہوں نے بارگاہ رسالت سے واپس ہو کر رات کو بڑی دیر تک نماز پڑھی اور پھر اللہ کی جناب میں رور و کر عرض کیا "اے اللہ! آپ نے جہاد کا حکم فرمایا اور اس کی ترغیب دی اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے اس کی طاقت نہ دی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مال دیا جس کے ذریعے آپ مجھے سواری عنایت فرما دیتے جب صبح ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے، آپ نے

بھرے مجمع میں فرمایا کہ رات کو جس نے صدقہ کیا ہے کھڑا ہو جائے، یہ سن کر کوئی کھڑا نہ ہوا، آپ نے پھر فرمایا تو حضرت عقبہ بن زید کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا کہ تم بشارت قبول کرو، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے تمہارے رونے دھونے کی وجہ سے تمہارے لئے مقبول شدہ زکوٰۃ کا ثواب لکھا گیا۔

اصحاب صفہ کے پاس سید عالم ﷺ کا

تشریف لا کر بیٹھنا اور ان کے دلوں کو

دنیا سے ہٹا کر آخرت کی طرف متوجہ کرنا

اللہ تعالیٰ کے نزدیک حضرات اصحاب صفہ کا جو مرتبہ تھا اس کی تفصیل گذشتہ اوراق سے معلوم ہو چکی ہے اسی مرتبہ کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حضرات کی خاص قدر فرماتے تھے اور ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے تھے ان کو دین سکھاتے اور آخرت کی چیزوں کی قدر و قیمت سے آگاہ فرما کر دنیاوی ساز و سامان سے ان کے دلوں کو بیزار فرماتے رہتے تھے، حضرات عقبہ بن عامرؓ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اس وقت ہم صفہ میں موجود تھے، اور تشریف لا کر فرمایا کہ تم میں سے کون شخص اس کو پسند کرتا ہے کہ روزانہ صبح کے وقت بازار بطحان اور عقیق میں جائے اور بلا کسی قسم کے گناہ اور قطع رحمی کے دو ایسی اونٹنیاں پکڑ کر لائے جو خوب موٹی تازی ہوں، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو ہم سب کو پسند اور مرغوب ہے، یہ سن کر

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ (دنیا کی حقیر اور فنا ہونے والی اونٹنیوں سے رغبت رکھنے کے بجائے) تم میں سے کوئی شخص ایسا کیوں نہ کرے کہ صبح کے وقت (مسجد میں) پہنچ کر اللہ کی کتاب میں سے دو آیتیں (کسی کو) سکھا دے یا خود ہی تلاوت کرے یہ ان کے لئے دو اونٹنیوں سے بہتر عمل ہوگا اور تین آیات کا (پڑھنا یا پڑھانا) تین اونٹنیوں سے اور چار آیات کا (پڑھنا یا پڑھانا) چار اونٹنیوں سے افضل ہے (پھر قاعدہ کا یہ کے طور پر فرمایا کہ) اور اس سے آگے جہاں تک بھی حساب لگاتے جاؤ اور آیتوں اور اونٹنیوں کا مقابلہ کرتے جاؤ تو (آیتیں ہی اونٹوں اور اونٹنیوں سے افضل ہوں گی، یعنی کوئی شخص جس قدر آیات پڑھے یا پڑھائے گا ان آیات کی تعداد کے بقدر اونٹوں کے حاصل کرنے سے افضل عمل ہوگا۔

بظمان اور عتیق مدینہ منورہ کے قریب دو چٹھیس ہیں جہاں اونٹوں کا بازار لگتا تھا، عرب والوں کے نزدیک اس زمانہ میں اونٹ نہایت ہی پسندیدہ چیز تھی۔ خاص کر اس اونٹنی کو تو بہت ہی عمدہ اور قابل قدر سمجھتے تھے جو موٹی تازی اور فریہ ہو، اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مزاج کو دیکھ کر رغبت کی چیز سے افضل اور عمدہ عمل کی طرف ان کو متوجہ فرمایا، یہ جو فرمایا کہ بغیر گناہ اور قطع رحمی کے اونٹنیاں حاصل ہو جائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اونٹنیاں گناہ کے ذریعہ حاصل کی جائیں مثلاً چرا کر یا چھین کر یا میراث وغیرہ میں کسی رشتہ دار کے مال پر قبضہ کر لے ان کا ذکر نہیں ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو اونٹنیاں دنیا و آخرت کے وبال و نقصان کے بغیر حاصل ہو جائیں ان میں سے ہر ایک اونٹنی ہر ایک آیت کے مقابلہ میں بہت ہی حقیر ہے اور جو اونٹنیاں گناہ اور قطع رحمی کے ذریعہ حاصل کی جائیں (جن پر مواخذہ ہو) ان کا تو آیت کے مقابلہ میں ذکر ہی کیا ہے۔

اس حدیث مبارک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مثال فانی اور باقی کا مقابلہ کر کے بتایا ہے ورنہ ایک آیت کے مقابلہ میں ہفت اقلیم کی

سلطنت بھی کچھ حقیقت نہیں رکھتی، آج نہیں تو موت کل کو دنیا کا سارا دھندا اور سارے منافع جدا کر دے گی، لیکن آیتوں کے پڑھنے اور پڑھانے میں جو ملے گا وہ ہمیشہ کے لئے ساتھ رہنے والی چیز ہے، ملا علی قاریؒ مرقات شرح مشکوٰۃ میں لکھتے ہیں:

والحاصل انه صلى الله عليه وسلم ازاد ترغيبهم في الباقيات وتنفيرهم عن الفانيات فذا ذكر هذا على سبيل التمثيل والتفريب الى الفهم والافهميع الدنيا احقر من ان يقابل بمعرفة اية من كتاب الله تعالى او بشواهدا من الدرجات العلى .	حاصل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو باقیات کی رغبت دلائی اور فانیات سے ان کا دل پھیرا لہذا سمجھانے کی غرض سے اونٹنی کو بطور مثال ذکر فرمایا ورنہ ساری دنیا ہی ایک آیت کے جان لینے اور اس کے ثواب سے جو درجات کی صورت میں ملے گا بہت ہی حقیر ترین ہے۔
--	---

اس حدیث کو لکھنے کے بعد حافظ ابو نعیم حلیہ الاولیاء میں لکھتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرات اصحاب صفہ کی توجہ تقاضائے بشریت اسباب دنیاوی پر جانے کا موقع ہوتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کی طرف رغبت دلاتے تھے جو ان کے لئے زیادہ مناسب اور نفع مند تھیں اور جن سے ان کے باطن کا سدھار ہوتا تھا یعنی ان کو ذکر اللہ میں مشغول ہونے اور ان کاموں میں لگنے کی ترغیب دیتے تھے جن سے انوار قلبی حاصل ہوں جن کی وجہ سے آخرت کے خطروں اور ہلاکتوں سے محفوظ رہ سکیں۔

حضرت حسن فرماتے تھے کہ ”صفہ“ ضعفائے مسلمین کے لئے بنایا گیا تھا

لہذا مدینے کے رہنے والے مسلمان جہاں تک ہو سکتا تھا صفہ والوں کے لئے کھانے پینے کی چیزیں بھیجنے میں ذرا کسر اٹھا کر نہ رکھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حضرات کے پاس تشریف لاتے تھے اور یوں فرمایا کرتے تھے
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا مَعْشَرَ الصُّفَّةِ (صفہ والو! تم پر سلام ہو) پھر ان سے دریافت فرماتے تھے کہ کَيفَ اَصْبَحْتُمْ (کس حال میں صبح ہوئی) وہ عرض کرتے بخیر يا رسول الله۔

ایک روز حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ (مسجد نبوی کی طرف چلے تو دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کو (قرآن شریف) پڑھا رہے ہیں اور بھوک کی وجہ سے آپ کے شکم مبارک پر پتھر بندھا ہوا ہے اور اس سے اپنی پشت قائم کر رکھی ہے۔

ایک مرتبہ آپ حضرات اصحاب صفہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے اندر اس طرح گھل مل کر بیٹھ گئے جس سے کہ بیٹھنے میں امتیازی شان نہ ظاہر ہو اور آپ اور وہ برابر معلوم ہوں اس کے بعد ان کو مالدار لوگوں سے پانچ سو برس پہلے جنت میں جانے کی خوشخبری سنائی (یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے)

حضرت ثابت بنانی کا بیان ہے کہ ایک جماعت میں حضرت سلمان (فارسی) موجود تھے، یہ جماعت جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی تھی، وہاں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا گذر ہوا (آپ کو دیکھ کر) وہ جماعت اپنے مشغلہ سے رک گئی، آپ نے فرمایا تم کیا کر رہے تھے؟ عرض کیا یا رسول اللہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے تھے! فرمایا جو تم کہہ رہے تھے پھر کہو کیوں کہ مجھے تم پر رحمت نازل ہوتی ہوئی نظر آئی، لہذا میرا تمی چاہا کہ اس رحمت میں تمہارے ساتھ میں بھی شریک ہو جاؤں، اس

کے بعد اللہ کی حمد و ثناء بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي
 جَعَلَ فِىْ اُمَّتِنِ مِنْ اَمْرِنَا اَنْ اَصْبَرَ نَفْسٍ مَّعْتَمِرًا (سب
 تعریف اللہ کے لئے جس نے میری امت میں ایسے لوگ کر دئے جن کے ساتھ
 اپنے نفس کو ٹھہرائے رکھنے کا مجھے حکم دیا گیا۔

حضرت جرید بن خویلدؓ بھی اصحابِ صفہ میں سے تھے ان سے روایت ہے
 کہ (ایک مرتبہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آ کر تشریف فرما ہوئے
 اس وقت میری ران کھلی ہوئی تھی آپ نے فرمایا اَمَّا عَلِمْتُمْ اَنْ الْفَخْذُ
 غَوْرَةٌ (کیا تمہیں پتہ نہیں کہ ران کا ڈھانکنا ستر چھپانے میں داخل ہے جو شرعاً
 ضروری ہے)

اصحابِ صفہؓ کے اسمائے گرامی

محدثِ حاکم نے مستدرک میں جن حضرات اصحابِ صفہؓ کے اسمائے گرامی

درج کئے ہیں وہ یہ حضرات ہیں:

- | | | | |
|----|-------------------------------------|----|------------------------------|
| ۱ | حضرت سلمان فارسیؓ | ۲ | حضرت ابو عبیدہ بن الجراحؓ |
| ۳ | حضرت عمار بن یاسرؓ | ۴ | حضرت عبداللہ بن مسعودؓ |
| ۵ | حضرت مقداد بن الاسودؓ | ۶ | حضرت خباب بن الارتؓ |
| ۷ | حضرت بلال بن رباحؓ | ۸ | حضرت صہیب بن سنانؓ |
| ۹ | حضرت زید بن الخطابؓ مخاروق کے بھائی | ۱۰ | حضرت ابو کبشہؓ |
| ۱۱ | حضرت ابو مرہد العدویؓ | ۱۲ | حضرت صفوان بن بیضاءؓ |
| ۱۳ | حضرت ابویسٰیٰ بن جبرؓ | ۱۴ | حضرت سالم مولیٰ ابو حذیفہؓ |
| ۱۵ | حضرت مسطح بن اثاثہؓ | ۱۶ | حضرت عکاشہ بن محسنؓ |
| ۱۷ | حضرت مسعود بن الربیعؓ | ۱۸ | حضرت عمیر بن عوفؓ |
| ۱۹ | حضرت عویم بن ساعدہؓ | ۲۰ | حضرت ابولبابہ بن عبدالمندثرؓ |
| ۲۱ | حضرت سالم بن عمیرؓ | ۲۲ | حضرت ابوالبشر کعب بن عمروؓ |
| ۲۳ | حضرت خبیب بن سیافؓ | ۲۴ | حضرت عبد اللہ بن انیسؓ |
| ۲۵ | حضرت ابوذر غفاریؓ | ۲۶ | حضرت قتیبہ بن مسعودؓ |
| ۲۷ | حضرت ابوالدرداءؓ | ۲۸ | حضرت عبد اللہ بن زید الجعفیؓ |
| ۲۹ | حضرت حجاج بن عمرو الاسلمیؓ | ۳۰ | حضرت ابو ہریرہ دوسیؓ |
| ۳۱ | حضرت ثوبانؓ (مولیٰ رسول اللہ) | ۳۲ | حضرت معاذ بن حارث القاریؓ |
| ۳۳ | سائب بن خلدؓ | ۳۴ | ثابت بن ودیعہؓ |

محدثِ حاکم ان حضرات کے اسمائے گرامی لکھ کر تحریر فرماتے ہیں کہ:

علفت هذه الاسامی من
 اخبار کثیرة متفرقة فيها
 ان ناموں کو میں نے بہت سی متفرق
 حدیثوں سے اخذ کر کے لکھ دیا ہے
 ذکر اهل الصفة والنازلین
 جن میں اصحاب صفہ اور ان کے
 پاس آ کر قیام کرنے والوں کا ذکر
 معهم المسجد .

ہے اور ان روایات کی سندیں میں نے حذف کر دی ہیں۔

حافظ ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں جن حضرات کو اصحاب صفہ میں سے تسلیم
 کیا ہے یا جن کے اصحاب صفہ میں سے ہونے کی تعلیل نہیں کی وہ یہ ہیں:

حضرت اسماء بن حارث، حضرت اغر المونی، حضرت بلال بن رباح،
 حضرت البراء بن مالک، حضرت ثوبان مولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت
 ثقیف بن عمرو، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت جرہد بن خویلد، حضرت جعبل بن
 سراق الضمری، حضرت جاریہ بن جمیل، حضرت حذیفہ بن السید، حضرت حارث
 بن العمان، حضرت حازم بن حرملة، حضرت حنظلہ بن ابی عامر غمیل الملائکہ،
 حضرت الحکم بن عمیر، حضرت حرملة بن ایاس، حضرت خباب بن الارت،
 حضرت حمیس بن حذافۃ السبکی، حضرت خریم بن فاتک، حضرت خریم بن اوس
 الطائی، حضرت ضعیب بن یسار، حضرت وکیبن بن سعد المہزنی، حضرت عبد اللہ
 ذوالجناہین حضرت ابولہبۃ الانصاری، حضرت ابو زریں، حضرت زید بن الخطاب،
 حضرت سلمان فارسی، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن عامر، حضرت
 سفینہ حضرت سالم مولی ابی حذیفہ، حضرت سالم بن عبیدن الاحمسی، حضرت سالم
 بن عمیر، حضرت سائب بن خلاد، حضرت شقران مولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
 حضرت شداد بن اسید، حضرت صہیب بن سنان، حضرت صفوان بن بیضاء،
 حضرت طلحہ بن قیس، حضرت طلحہ بن عمرو، حضرت لطفواوی دوسی، حضرت عبد اللہ
 بن مسعود، حضرت ابو ہریرہ دوسی رضی اللہ عنہم اجمعین۔

حاکم و ابو نعیم کی دونوں فہرستوں کا مقابلہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے وہ نام جو ایک نے ذکر کئے ہیں دوسرے نے ذکر نہیں کئے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اصحاب صفہ کی تعداد چار سو تک بتائی جاتی ہے اس لئے جس کو جو نام معلوم ہو گیا اس نے وہی لکھ دیا، پھر یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ بعض وہ حضرات جن کو محدث حاکم اصحاب صفہ میں سے بتاتے ہیں حافظ ابو نعیم اس کو تسلیم نہیں کرتے مثلاً ثابت بن ودیعہ جو محدث حاکم کی فہرست کا آخری نام ہے اس کے متعلق حافظ ابو نعیم لکھتے ہیں:

وانما نزل الكوفة لا الصفة وہ کوفہ میں قیام پذیر ہوئے تھے صفہ
میں قیام نہیں فرمایا۔

حافظ ابو نعیم کی تحریر سے یہ بھی معلوم ہے کہ بعض کاتبین نے غلطی سے بعض اصحاب قبہ اور اصحاب عقبہ کو اصحاب صفہ میں لکھ دیا ہے اور ایک وجہ اس میں اختلاف کی یہ بھی ہے کہ بعض صحابہ گوگھر والے تھے لیکن چونکہ اصحاب صفہ کے پاس ان کا اٹھنا بیٹھنا زیادہ تھا اور صبر و فقر کو انہوں نے ترجیح دی تھی اس لئے ان کو بھی بعض راویوں نے اصحاب صفہ میں شمار کر لیا مثلاً حضرت حذیفہ بن الیمان کے متعلق حافظ ابو نعیم لکھتے ہیں:

خالط اهل الصفة مدة ایک عرصہ تک اصحاب صفہ کے پاس
فنسب اليهم. اٹھتے بیٹھتے رہے اس لئے ان ہی کی
طرف ان کی نسبت کر دی گئی۔

چوں کہ مجھے اصحاب صفہ کے عمومی احوال (فقروفاقد) تعلیم و تعلم، ذکر اللہ، محبت آخرت وغیرہ کا ذکر کرنا مقصود ہے اس لئے تمام اسمائے گرامی کی تفتیش میں نہیں لگتا ہوں اور ناموں کی فہرست اسی پر بس کرتا ہوں۔

فکر و اعتبار

آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے نام لیوازمین کے چپہ چپہ پر موجود ہیں اسلام کے علوم و معارف کے جاننے والے اور قرآن و حدیث کے ماہر جگہ جگہ مل جاتے ہیں یہ علوم ہم تک کس طرح پہنچے؟ اس پر اگر ہم غور کریں تو اسی نتیجہ پر پہنچیں گے کہ قرن اول کے مسلمانوں نے اپنی جانوں پر کھیل کر علوم اسلامیہ کو حاصل کیا اور دنیاوی مشغلوں کو چھوڑ کر یا کم کر کے اسلام کو سیکھنے کے لئے اوقات فارغ کئے پھر ان علوم کو پھیلانے اور دوسروں تک پہنچانے میں بڑی ہمت اور حوصلہ سے کام لیا اور اسلام کی تبلیغ کے لئے ملک اور شہر بہ شہر پھیل گئے۔

حضرات اصحاب صفہ کو لے لیجئے کہ دین حاصل کرنے کے لئے برسوں درس گاہ نبویؐ میں بھوکے پیاسے پڑے رہے، فاقوں پر فاقے ہیں پھر بھی مست اور مگن ہیں، کپڑے نہیں ہیں پھر بھی خوش ہیں، گھر در نہیں پھر بھی ہشاش بشاش ہیں، اگر یہ حضرات چاہتے تو صفہ کو چھوڑ کر اور اسلام کے مدرس اعلیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت سے جدا ہو کر کاروبار میں لگ جاتے اور شہروں میں منتشر ہو کر کھاتے کھاتے، مکان بناتے، مزے اڑاتے لیکن چوں کہ انہوں نے کھانے پینے اور کسب کرنے کو زندگی کا مقصد نہیں سمجھا تھا اور مکانات بنانے کو دنیا میں آنے کی غرض نہیں بنایا تھا اس لئے ان چیزوں کے پاس نہ ہونے سے ذرا نہ گھبراتے تھے چوں کہ قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا ان کی غذا تھی اللہ کا ذکر ان کا مشغلہ تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات محفوظ کرنا ان کی اہم آرزو تھی اس لئے ان چیزوں میں اگر اپنی کوتاہی دیکھتے تو پریشان ہوتے تھے کیونکہ مقصد زندگی فوت ہوتا نظر آتا تھا۔

ان حضرات نے آخرت سامنے رکھی اپنے باطن کو محبت خداوندی سے معمور

کیا آخرت کے غنا کی آرزو میں فقر و فاقہ کو اختیار کیا، جنت کے مخلوق کو دنیا کے مکانوں پر ترجیح دی اور آخرت کے حساب سے بیچنے کے لئے دنیاوی ساز و سامان سے منہ موڑا اور درگاہ نبوی کے بھوکے پیاسے طالب علم بن کر امت کے استاد اور مقتدا اور قیامت آنے تک امت کی طرف سے رضی اللہ عنہم کی دعا کے مستحق ہو گئے اور آخرت میں اپنا یہ مقام حاصل کیا کہ مالداروں سے پانچ سو برس پہلے جنت میں داخل ہونے کا شرف ملا اور ان کی عزت بڑھانے کے لئے سید المخلوقات صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ ان کے پاس بیٹھے رہا کرو، دنیا سے منہ موڑا، اللہ سے رشہ جوڑا، یہ اللہ کے ہو گئے اللہ ان کا ہو گیا، علوم کے سمندر پی گئے، معارف کے معدن بن گئے ننگے بھوکے تھے مگر اللہ کے پیار سے تھے ارونی سے پیٹ خالی تھا لیکن ایمان و یقین سے دل لبریز تھا، قربانی دی، اس کا پھل ملا۔ فانی دنیا چھوڑ گئے، باقی کے مستحق ہو گئے۔

آج اسلام زندگیوں سے نکلا ہوا ہے، علوم اسلامیہ کے محافظ بس کاغذ ہی رہ گئے ہیں، مسلمان اس عہدہ کو چھوڑتے جا رہے ہیں، اسلام انجیسی ہے اس کے احکامات سے زندگی کا ہر شعبہ خالی ہے، اللہ کے ذکر سے زبانیں معمور نہیں بلکہ غیبتوں اور لائےنی باتوں سے لبریز ہیں، علوم قرآن و حدیث کو قابل تحصیل نہیں سمجھا، بلکہ فلسفہ اور جغرافیہ، سائنس اور دیگر دنیاوی علوم کیلئے زندگیاں وقف ہیں، اچھے اچھے دیندار کہلانے والے اور قرآن و حدیث کے مدرس اپنے بچوں کو اسکولوں اور کالجوں کی نظر کر کے کفر و الحاد کے حوالے کر رہے ہیں، یہ پیٹ و تن اور کمانے کھانے سے آگے نہ فکر ہے نہ ہمت، نہ حوصلہ نہ ارادہ، روٹی ہونی چاہئے اور ایمان کی ضرورت نہیں، کپڑا اجلا ہو خواہ دل پر الحاد و کفر کے عقائد کی سیاہی چڑھی ہو، مکان اچھا ہو خواہ نماز غارت ہو رہی ہو، یہ آج کے مسلمان کی حالت ہے۔

دینی مدارس طلباء سے خالی ہوتے جا رہے ہیں اور جو طلباء ان مدارس میں

نظر آتے ہیں اچھا کپڑا اچھا کھانا محبوب و مرغوب ہے، بھوک و پیاس سے محبت نہیں رہی، دینی علوم پڑھنے کے زمانے میں کسی کو طب کی طرف توجہ سے، کوئی منشی فاضل اور مولوی فاضل کی سند حاصل کرنے کے لئے سرگردان ہے، کوئی میٹرک کے امتحان کے لئے محنت کر رہا ہے، کوئی بی اے اور ایم اے کی ڈگری حاصل کرنے کی، منگوں میں گم ہے حالانکہ یہ چیزیں دین اور علم دین کا نہیں چھوڑتی ہیں کیوں کہ جو حکیم بنایا کسی کالج کا پروفیسر ہو گیا وہ دینی خدمت سے گیا اور جو صرف مولوی ہی رہ گیا اسے تنخواہ کم ملتی ہے اب چوں کہ دنیا سے لگاؤ ہے اس لئے اہل دنیا کی طرف نظر ہے بھوک پیاس سے محبت نہیں۔

فَلْ مَنَعَ الدُّنْيَا قَلْبَكَ وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ لِّمَنْ أَنْفُسِهِ لَا تَظْلَمُونَ فَتَبَلَّأُ
 بھوک اور پیاس کو خفا بنا کر دینی علوم پڑھیں اور پڑھائیں اور دنیا سے نظریں ہٹا کر درگاہِ نبویؐ کے طالب علموں کی طرح زندگی بسر کرنے پر آمادہ ہو جائیں اور اپنے باطن کو محبتِ الہیہ سے معمور کریں، اور دینی خدمت کو مقصود بنادیں تو قلوب منور ہو جائیں، اللہ کے یہاں بھی معزز ہوں دنیا والے بھی قدر کریں جو صرف نماز کے امام ہیں امت کے ہر کام کے امام ہو جائیں لیکن المناجا علیٰ مشن البلايا لذقون کو قربان کرنے کی ضرورت ہے۔

آج اسلام کی خدمت کے لئے نہ فقیر تیار ہے، نہ مالدار، تنگ دست، اور مفلس بھی علومِ دینیہ سے ناواقف ہیں اور مالدار سرمایہ دار بھی، نہ ان کو آخرت سے محبت ہے نہ ان کو، نہ مالدار دین کو پھیلانے اور اس کے حاصل کرنے پر راضی ہیں نہ تنگ دست، اور دونوں فریق (عملاً) یہ سمجھتے ہیں کہ نہ ہمارے ذمہ دین پر خود چلنا ہے اور نہ دوسروں کو چلانا ہے، مالدار کے پاس ٹیلیویشن، ناچ گانوں اور گا جوں باجوں، اور فحاشی و عیاشی اور دیگر گناہوں میں روپیہ برباد کرنے کو خوب ہے لیکن دین کی خدمت کے لئے اقتصادی حالت خراب ہے عیسائیوں کی

طرح شکل و صورت بنانے اور ان جیسا لباس سلوانے کے لئے تو سب کچھ موجود ہے لیکن محلہ کی مسجد اور گاؤں کے مدرسہ کے لئے خرچ کرنے کو کچھ بھی پاس نہیں غریبوں سے دین سیکھنے کے لئے کہو اور اسلام پھیلانے کی ترغیب دو تو مالداروں پر مال دیتے ہیں، دنیا کمانے میں سرگرداں ہیں، لیکن پھر بھی نصیب نہیں اور دین کو (اپنے خیال میں) اس لئے نہیں سیکھتے کہ ننگے بھوکے ہیں حالاں کہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے برابر آج کوئی بھی نہیں ہے، اگر فقر و فاقہ اور تنگ دستی دین سیکھنے سکھانے سے روکنے والی چیز ہوتی تو بس حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اپنی بھوک اور پیاس ہی کو لئے بیٹھے رہتے اور دین ان سے آگے نہ بڑھتا، مسلمانوں آنکھیں کھولو اور اللہ سے لو لگاؤ اس کے دین کی خدمت کرو۔ (کَلَّا إِنَّهَا لَنَذْكُرَ فَمَنْ شَاءَ ذَكِّرْ)

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والصلوة
والسلام على سيد رساله محمد واله واصحابه اجمعين

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ